



# اپنی COVID-19 ویکسین لگوائیں

اس وقت مندرجہ ذیل اہل ہیں: 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد؛ کچھ مخصوص طبی کیفیات سے متاثرہ افراد، ریستورانوں پر کام کرنے والے؛ نگہداشت صحت کے کارکنان؛ نرسنگ ہومز میں رہائش پذیر افراد اور عملہ؛ بے گھر افراد کے لیے شیلٹرز اور دیگر اجتماعی رہائشی مقامات پر رہنے والے؛ اور کچھ ضروری خدمات مہیا کرنے والے کارکنان، جیسے پہلا یا فوری رسپانس دینے والے افراد، اساتذہ اور اسکول کا عملہ، ٹرانزٹ کے کارکنان، اور گروسری اسٹورز کے کارکنان۔ تمام اہل گروپوں کی فہرست کے لیے، [nyc.gov/covidvaccinedistribution](https://nyc.gov/covidvaccinedistribution) ملاحظہ کریں۔

## اپوائنٹمنٹ لیں

ویکسینیشن سائٹ تلاش کر کے اپوائنٹمنٹ لینے کیلئے [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) ملاحظہ کریں۔ تمام سائٹس پر اپوائنٹمنٹس لینا درکار ہے۔ آپ 877-829-4692 پر کال کر کے بھی کسی NYC سائٹ پر اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔

## اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے تیاری کرنا

ویکسین لگوانے کے لیے آپ کو [vaccineform.health.ny.gov](https://vaccineform.health.ny.gov) پر دستیاب نیویارک اسٹیٹ (NYS) کا COVID-19 ویکسین کا فارم مکمل کرنا ہو گا۔

اگر آپ اپنی عمر کی بنیاد پر ویکسین لگوانے کے اہل ہیں تو آپ کو عمر اور نیویارک میں رہائش کا ثبوت ساتھ لانا ہو گا۔

اگر آپ ملازمت کی بنیاد پر ویکسین لگوانے کے اہل ہیں تو آپ کو ملازمت اور نیویارک میں رہائش کا ثبوت ساتھ لانا ہو گا۔

اگر آپ کسی مخصوص طبی کیفیت کی بنیاد پر ویکسین لگوانے کے اہل ہیں تو آپ ذاتی طور پر تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی طبی کیفیت لاحق ہے۔ آپ کو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کی جانب سے جاری کردہ کوئی دستاویزات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نیو یارک کا رہائشی ہونے کا ثبوت بھی لانا ہو گا۔

اہلیت کے ثبوت کی قابل قبول اقسام سے متعلق مزید معلومات کے لیے [nyc.gov/covidvaccine](https://nyc.gov/covidvaccine) ملاحظہ کریں۔

ویکسینیشن کی کچھ سائٹس صرف NYC کے رہائشیوں یا کارکنان، یا مخصوص محلوں کے رہائشیوں کیلئے مختص ہیں۔ مزید، کچھ سائٹس پر فقط کسی مخصوص عمر کے گروپوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اپنی اپوائنٹمنٹ لینے سے پہلے ویکسینیشن سائٹ کی اہلیت کی شرائط کو دیکھ لیں۔

- اگر اپنی اپوائنٹمنٹ کے دن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپنی اپوائنٹمنٹ کسی اور دن رکھ لیں۔
- اپنی اپوائنٹمنٹ پر جاتے ہوئے چہرے پر نقاب پہنیں۔ چہرے کے نقاب کے بغیر آپ کو سائٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔

**NYC VACCINE FOR ALL:  
SAFE, FREE, EASY**